

بخدمت جناب کنوینر اپیل کمیٹی / کنٹرولر امتحانات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد



عنوان: اپیل بر خلاف فیصلہ یو ایم سی کیس

گزارش ہے کہ فدوی / فدویہ جامعہ ہذا میں۔۔۔۔۔ پروگرام سمسٹر بہار / خزاں۔۔۔۔۔ میں زیر تعلیم ہے۔ دوران امتحان میرے خلاف کورس کوڈ۔۔۔۔۔ میں یو ایم سی کیس درج کیا گیا۔ اب مجھے کیس مذکورہ کے فیصلہ کا خط بحوالہ نمبر۔۔۔۔۔ مورخہ۔۔۔۔۔ موصول ہوا ہے (خط کی فوٹو کا پی لف ہے)۔

چونکہ فدوی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے لہذا التماس ہے کہ مجھے اپیل کمیٹی کے روبرو پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔

میں تصدیق کرتا / کرتی ہوں کہ مذکورہ خط میں دی گئی ہدایات پڑھ اور سمجھ لی ہیں۔ اور جامعہ کے قوانین کے مطابق پیشی کے لیے اسلام آباد آنے کا / کی پابند ہوں۔

دستخط طالب علم۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔

ولدیت۔۔۔۔۔

شناختی کارڈ نمبر۔۔۔۔۔

رول نمبر۔۔۔۔۔

رجسٹریشن۔۔۔۔۔

خط و کتابت کا پتہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔

موبائل نمبر۔۔۔۔۔

مورخہ۔۔۔۔۔